

## 71225 - کیسی بیوی اختیار کرنی چاہیے

### سوال

ایک نیک و صالح بیوی کی کیا صفات ہیں، اور ہم اس بیوی سے کیوں شادی کرتے ہیں؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جب دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ایک مرحلہ شمار ہوتی ہے جس میں آدمی آزمایا جاتا ہے تا کہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے اعمال کرتا ہے اور پھر روز قیامت اسے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے اس لیے ایک عقلمند مسلمان پر لازم تھا کہ وہ اپنی دنیا میں ہر اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے جو اس کی آخرت میں سعادت کا باعث ہو، اور سب سے اہم اور بہتر معاون و مددگار اس کا نیک و صالح و ساتھی ہے جس سے وہ اپنے مسلمان معاشرے کی ابتدا کرتا ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، پھر ایک نیک و صالح اور متقی دوست اختیار کر کے ابتدا کرتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا:

"تم مومن کے علاوہ کسی اور سے دوستی مت رکھو"

سنن ابو داؤد حدیث نمبر ( 4832 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

پھر اس کی انتہاء ایک نیک و صالح بیوی اختیار کر کے کرتا ہے جس میں یہ نشانی پائی جاتی ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں میں ابدی سعادت کی طرف ایک بہتر اور معاون رفیق حیات ثابت ہو گی۔

اور بیوی کی نیکی کی نشانی زندگی کی ہر شعبہ میں نظر آنی چاہیے:

یہی وہ بیوی ہے جس کے متعلق خیال اور گمان ہو کہ وہ اس کی موجودگی اور غیر حاضری میں اپنے آپ اور اپنی عزت و ناموس پر چھوٹے اور بڑے میں حفاظت کریگی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

پس نیک و فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں النساء ( 34 )۔

یہی ہے جو اخلاق حسنہ کی مالک اور بلند ادب رکھتی ہو نہ تو اس کی چرب زبانی اور دل کی خباثت جانی جائے اور نہ ہی سوء معاشرت، بلکہ وہ پاکیزہ اور صاف و شفاف دل کی مالک اور اخلاق رکھتی ہو، اور حسن مخاطبہ اور معاملہ میں نرمی رکھنے والی ہو، اور اس سب سے اہم یہ کہ وہ نصیحت کو قبول کرنے والی اور اس کو دل و جان اور عقل سے لے کر عمل کرنے والی ہو ان عورتوں میں شامل نہ ہوتی ہو جو ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ریاء کاری اور تکبر کا شکار رہتی ہیں۔

اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

ہمیں بنی عنبر کے ایک شیخ نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں : ایک نرمی رکھنے والی آسانی والی مسلمان عورت اپنے گھر والوں کی زندگی میں معاون بنتی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے مقابلہ میں زندگی کی معاون نہیں ہوتی، اور دوسری بچے کے لیے برتن ہے اور تیسری طوق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہے اس طوق کو بنا دیتا ہے اور جسے چاہے اس سے دور کر دیتا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں:

بہترین عورت وہ ہے جسے دیا جائے تو شکر کرے، اور جب محروم رہے تو صبر کرے، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب اسے حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے۔

وہی جو اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ ایمان و تقویٰ میں اضافہ کی حرص و کوشش کرتی ہو نہ تو کوئی فرض ترک کرے، بلکہ نوافل کی حرص رکھتی ہو اور اللہ کی رضامندی کو ہر ایک کی رضا پر مقدم رکھتی ہو۔

اسی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" چنانچہ تم دین والی کو اختیار کرو تیرا ہاتھ خاک میں ملے "

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 4802 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1466 )۔

نیک و صالح عورت وہی ہے جسے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کی سچائی کے ساتھ تربیت کرنے والی مربیہ ہے، انہیں اسلامی تعلیمات سکھائے اور اخلاق و قرآن کی تعلیم دے، اور ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے لیے بھلائی کی محبت کا بیج بوئے، اولاد کی دنیا میں اس کا یہی مقصد نہ ہو کہ وہ ایک اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کریں اور مال و دولت اور اچھی نوکری اور اچھا سرٹیفکیٹ حاصل کریں بلکہ ان کے لیے اسے تقویٰ و پرہیزگاری کے اعلیٰ مراتب اور اخلاق و علم کے اعلیٰ درجہ پر فائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان شخص کو ایسی بیوی اختیار کرنی چاہیے جب اسے دیکھے تو اس کے دل کو سکون ہو اور اس کی موجودگی سے اس کا دل راضی و خوش ہو جائے اور اس کی زندگی اور گھر خوشی و سرور اور فرحت سے بھر جائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

عرض کیا گیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوسنی عورت بہتر ہے ؟

تو آپ نے فرمایا:

" وہ عورت جسے تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور خاوند کے مال و دولت میں ایسی مخالفت نہ کرے جو خاوند کو پسند نہیں "

مسند احمد ( 2 / 251 ) علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلة الاحادیث الصحیحة حدیث نمبر ( 1838 ) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا:

" کونسی عورت افضل ہے ؟

تو انہوں نے فرمایا:

" جو قول میں عیب نہ جاتی ہو، اور مردوں کے مکر کا علم نہ رکھتی ہو، دل کی فارغ ہو اور صرف اپنے خاوند کے لیے زینت اختیار کرتی ہو، اور اپنے گھر والوں کی عزت میں رہتی ہو "

دیکھیں: محاضرات الادباء تالیف راغب اصفہانی ( 1 / 410 ) اور عیون الاخبار تالیف ابن قتیبہ ( 1 / 375 )۔

اور مزید آپ درج ذیل سوالات کے جوابات کا مطالعہ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں: سوال نمبر ( 6585 ) اور ( 8391 ) اور ( 26744 ) اور ( 83777 )۔

واللہ اعلم .